

تحریر کے لئے



واؤچر - آپ کے لئے
اضافی مدد

واؤچر کا نظام کیا ہے؟

کوین بیگن بلدیہ کے واؤچر کے ذریعہ آپ کو فی ہفتہ آدھے گھنٹے کی اضافی مدد ملتی ہے۔ یہ مکمل طور پر آپ پر منحصر ہے کہ وقت کیسے استعمال کریں۔ یہ کتابچہ آپ کو تحریک دے گا کہ آپ اضافی وقت کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

ایک آرٹ میوزیم
کا دورہ



The painting is a reproduction of a work by the 19th-century landscape painter J.M.W. Turner. It depicts a scene from the English countryside, showing a path leading through a dense forest of tall, slender trees. The scene is rendered in a detailed, realistic style with a muted color palette. The painting is framed by a simple wooden border.

Small white label on the wall.

پسنديده مقامات
کا دوره





کتابیں پڑھنے
کے لئے امداد
حاصل کریں



روزانہ کے کام
میں مدد حاصل
کریں

کیفے کے
دورے



آپ کس طرح واؤچر کے نظام کو استعمال کر سکتے ہیں؟

آپ ہفتے میں ایک بار آدھے گھنٹے اضافی حمایت کے لئے واؤچر کا نظام استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ واؤچر کے وقت کو بچا کر اسے طویل سرگرمیوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، یہ لچک آپ کی خواہشات پر منحصر ہے۔ آپ صرف مجموعی حمایت کے تین گھنٹے ہر چھٹے ہفتے تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے واؤچر رکھنے والے کے ساتھ مل کر بھی اپنا واؤچر مشترکہ سرگرمیوں کی حمایت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

آپ کب واؤچر کے نظام کو استعمال کر سکتے ہیں؟

اگر آپ گھر میں رہتے ہیں، اور آپ کے پاس واؤچر ہے، تو آپ اپنے مددگار کے ساتھ طے کر کے واؤچر شام دس بجے تک، ہفتے کے روز مرہ کے دنوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک نرسنگ ہوم میں رہتے ہیں تو آپ واؤچر اپنے رابطہ شخص کے ساتھ طے کر کے، شام دس بجے تک، ہفتے کے روز مرہ کے دنوں میں اور اختتام ہفتہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔

آپ کس لیے واؤچر کے نظام کو استعمال کر سکتے ہیں؟

یہ چناؤ آپ خود کرتے ہیں کہ واؤچر کس مقصد کے لئے استعمال میں لایا جائے۔ اسے گھر کی اضافی صفائی سے لیکر Tivoli جاتے تک کی امداد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

آپ کو کس چیز کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے؟
باخبر رہیں کہ

• کسی بھی داخلی دروازے کی فیس یا کھانے کی قیمت کے لئے، آپ کو صرف اپنے آپ کے لئے ادائیگی کرنی ہے۔ بلدیہ کے ملازمین کے اخراجات کی ادائیگی بلدیہ کرے گی۔

• اگر آپ واؤچر سسٹم کے استعمال میں شامل ہیں اور آپ کو، نقل و حمل کے لیے خصوصی مدد کی ضرورت ہے تو آپ ٹرانسپورٹ سکیم، استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ مزید معلومات کے لیے رابطہ کے شخص یا فوری مددگار سے پوچھ سکتے ہیں۔
Movia

واؤچر سکیم کے بارے میں حقائق


- آپ اضافی امداد کے 30 منٹ فی ہفتہ حاصل کر سکتے ہیں۔
- اپنے کلپس کو بچانا ممکن ہے۔ زیادہ سے زیادہ کل حمایت کے تین گھنٹے ہر چھٹے ہفتے۔
- کلپس دیگر شہریوں کے کلپس کے ساتھ ضم کیا جا سکتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں کو انجام دیا جا سکتا ہے۔
- اگر آپ ایک نرسنگ ہوم میں رہتے ہیں تو آپ وائچر اپنے رابطہ کے شخص کے ساتھ طے کر کے، شام دس بجے تک، ہفتے کے روز مرہ کے دنوں میں اور اختتام ہفتہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور آپ کو مددگار حاصل ہے تو وائچر آپ اپنے مددگار کے ساتھ طے کر کے، شام دس بجے تک، ہفتے کے روز مرہ کے دنوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔
- کسی بھی داخلی دروازے کی فیس یا اس سے ملتے جلتے اخراجات کے سلسلے میں، آپ کو صرف اپنے آپ کے لئے ادائیگی کرنی ہے۔
- کلپ کی منصوبہ بندی دیکھ بھال کے مرکز اور آپ کی مدد سے کی جائے گی۔



کوین پیگن کے
پارکوں میں ایک
واک

بلیو سیارے کے
دورے





واؤچر کے نظام کو اس مقصد کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

- خاندان اور دوستوں کی ملاقات
- Tivoli سفر
- خریداری اور شاپنگ
- نمائش اور سائنٹس
- جوڑی موٹر سائیکل میں واکنگ اور سائیکلنگ
- پرانے دنوں کے مقامات کا دورہ
- کوپن ہیگن پارکوں، قبرستان یا پناہ گاہوں کا دورہ
- پوسٹ آفس یا بینک جانا
- بیوٹی سیلون
- مہمانوں کی خاطر مدارات کرنے میں مدد
- کافی اور دیگر سنیکس کے بارے میں
- سولٹیئر یا ٹاش یا دیگر کھیل
- کھیلنے میں
- کرسمس کے لئے تیاری
- موسیقی سننے اور ایلبم میں تصویر دیکھنے کے لیئے۔
- مساج کے ساتھ نہانے، بال سنوارنے اور مینیکیور کے لیئے۔
- دراز اور الماری کی صفائی کے لئے
- کمپیوٹر کا استعمال سیکھنا۔
- چھوٹی مرمت